



## پری رجسٹریشن کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟

Asylum service آپ کو ایک پیغام (sms) آپ کے موبائل فون پر بھیجے گا جس میں آپ کے اگلے انٹرویو کے وقت اور جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ پیغام (sms) آپ کو آنے والے ہفتوں میں بھیجا جائے گا۔ یہ پیغام (sms) آپ کو اس نمبر پر بھیجا جائے گا جو آپ نے رجسٹریشن کلرک کو دیا تھا۔

آپ کا اگلا انٹرویو رجسٹریشن کے چند مہینے بعد ہوگا۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس وقت یونان میں ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین پناہ کے متلاشی ہیں۔

آپ کے Asylum service کے ساتھ اگلے انٹرویو کا انحصار چار باتوں پر ہے۔

- آپ کی یونان میں آمد کی تاریخ
- زبان جو آپ بولتے ہو اور اگر آپ نے یونان میں پناہ کیلئے کیا ہو۔
- خاندان کے ساتھ میلاپ
- دوسرے ملک میں منتقلی

ایسے بے سرپرست بچے، جسمانی یا ذہنی معذور افراد جس کو خاص مدد کی ضرورت ہو انکی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔

اگلے انٹرویو کیلئے افراد کا لسٹ Asylum service کے ویب سائٹ (<http://asylo.gov.gr>) پر شائع کیا جائے گا۔

اگر آپ حکومتی سائٹس (کیمپوں) میں سے کسی ایک میں رہتے ہوں تو (Asylum service) اس جگہ پر رہائشی تمام افراد کی لسٹیں وہاں پر فراہم کرے گا۔

یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دئیے ہوئے تاریخ پر انٹرویو کیلئے موجود ہو بصورت دیگر آپ کو تمام مراحل سے دوبارہ گزرنا پڑے گا اور سکائپ کے ذریعے ٹائیم لینا ہوگا۔

یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ Asylum service انٹرویو کیلئے آئیں۔

اگر آپ کا موبائل نمبر یا ایڈریس تبدیل ہو تو مندرجہ ذیل (email) ایڈریس پر (Asylum services) کو مطلع کریں [new.numbers@asylo.gov.gr](mailto:new.numbers@asylo.gov.gr)

یہ ضروری اسلئے ہے کہ حکومتی افراد آپ کو اگلے انٹرویو کیلئے تاریخ اور جگہ کے بارے میں بتائیں گے۔



HELLENIC REPUBLIC  
Ministry of Interior and  
Administrative Reform

Asylum Service



ایمیل میں نام، تاریخ پیدائش، رجسٹریشن نمبر، اپنا فون نمبر، ایڈریس وغیرہ انگلش یا یونانی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔

دوسرے انٹرویو کے دوران آپ کے پاس آپ کے (Asylum Service card) کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد یا آپ کے پاس کارڈ نہ ہو تو آپ کو تمام مراحل سے دوبارہ گزرنا ہوگا جس کیلئے آپ کو سکائپ کے ذریعے ٹائیم لینا ہوگا۔ براہ مہربانی ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات مثال کے طور پر پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، میرج سرٹیفیکیٹ وغیرہ۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد یورپ میں مقیم ہے تو اس کے بھی تمام دستاویزات ساتھ لائیں۔

اگر آپ کو دوسرے ملک منتقلی کے بارے میں معلومات درکار ہوں تو آپ (EASO) کے ہاٹ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یونان کے جنوب (یعنی ایتنہز) کے قریب رہتے ہوں تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ +306944829138 - اگر آپ شمال (یعنی تسہالونوکی) کے قریب رہتے ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں +306989764598

پیر سے لے کر جمعہ تک صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آپ اوپر نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ آپ یو این ایچ سی آر یا کسی دوسرے ادارے جو کہ قانونی صحت یا نفسیاتی امداد فراہم کرتے ہوں، رابطہ کر سکتے ہیں۔